



مومنو! تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے

## Quran with Urdu Translation

Fateh Muhammad Jalundhari

(فتح محمد جالندھری)

### سورة الصف

Urdu Translation اردو ترجمہ

Click This Bar to Listen Audio

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1)

اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2)

مومنو! تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو جو کیا نہیں کرتے

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)

خدا اس بات سے سخت بیزار ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4)

جو لوگ خدا کی راہ میں (ایسے طور) پر پرے (صف) جما کر لڑتے ہیں

گویا سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں وہ بیشک محبوب کردگار (خدا) ہیں

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ

اور (وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا

يَا قَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ لِقَوْمِ اللَّهِ قَوْلًا بِغَيْرِ حُجَّةٍ

کہ اے میری قوم! تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ

تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

تو جب ان لوگوں نے کجروی کی خدا نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (5)

اور خدا نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ

اور (وہ وقت بھی یاد کرو) جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ

اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں (اور) جو

(کتاب) مجھ سے پہلے آچکی ہے (یعنی) تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں

وَهُبِّشِّرْ اِبْرَسُوْلِيْ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِي اِسْمُهُ اَحْمَدُ<sup>ص</sup>

اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہو گا ان کی بشارت سناتا ہو

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ (6)

(پھر) جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَسَى عَلَى اللّٰهِ الكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْاِسْلَامِ<sup>ج</sup>

اور اس سے ظالم کون کہ بلا یا جائے تو اسلام کی طرف اور وہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھے۔

وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (7)

اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَنْوَاھِمُ

یہ چاہتے ہیں کہ خدا (کے چراغ) کی روشنی کو منہ سے (پھونک مار کر) بجھادیں

وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ (8)

حالانکہ خدا اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافر ناخوش ہی ہوں۔

هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ

وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ (9)

تاکہ اسے اور سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکوں کو برا ہی لگے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ (10)

مومنو! میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب الیم سے مخلصی دے۔

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

(وہ یہ کہ) خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ

وَمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ

اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو۔

ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11)

اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو باغ ہائے جنت میں جن میں نہریں بہ رہی ہیں

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَاتٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ

اور پاکیزہ مکانات میں جو بہشت ہائے جاودانی میں (تیار) ہیں داخل کرے گا

ذَلِكَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ (12)

یہ بڑی کامیابی ہے

وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَا

اور ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

(یعنی تمہیں) خدا کی طرف سے مدد (نصیب ہوگی) اور فتح (عن) قریب ہوگی

وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (13)

اور مومنوں کو (اس کی) خوشخبری سنادو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ

مومنو! خدا کے مددگار بن جاؤ

كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لَلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ <sup>صلی</sup>

جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ (بھلا) کون  
ہیں جو خدا کی طرف (بلانے میں) میرے مددگار ہوں؟

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ <sup>صلی</sup>

حواریوں نے کہا کہ ہم خدا کے مددگار ہیں

فَأَمَّنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ <sup>صلی</sup>

تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا۔

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14)

آخر الامر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد دی اور وہ غالب ہو گئے



© Copy Rights:  
Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana  
Lahore, Pakistan  
www.quran4u.com